

اپریل 2017

عزیز والدین / سرپرست

نئے سکول کی تعمیر جو کہ بینڈیل بزنس اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور ڈیوڈ اینڈ میری تھامسن کالجیٹ انسٹیٹیوٹ کی جگہ لے گا، کا اپریل 2017 کا ہفتہ شروع ہو گیا ہے۔ اس خط کی پشت پر براہ مہربانی اس جگہ کا نقشہ دیکھیں جو اثر انداز ہو گا۔

براہ مہربانی ذیل میں وہ کچھ جگہیں دیکھ لیں جن کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگاہ رہیں جب ہم تعمیر کا کام شروع کریں:

- والدین پک کرنے اور ڈراپ کرنے کے لیے ڈان وڈ پارکنگ لاٹ کا حصہ استعمال کرنا جاری رکھیں گے: ڈراپ کرنے کے لیے بائے بروک پارکنگ لاٹ نہیں استعمال ہو گا کیوں کہ تعمیراتی احاطہ کی وجہ سے ہمارے پاس واضح طور پر کم جگہ ہو گی
- میدان سے سکول کی جانب آنے والے راستے بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ سکول کی جانب آنے والے مغربی راستے تک کوئی رسائی نہیں ہو گی، تاہم ایک متبادل راستہ میسر ہے؛ سکول کی جانب آنے والا مشرقی راستہ استعمال کیا جا سکتا ہے
- ہمارا سوکر کا میدان مئی 24 تک کھلا رہے گا، پھر یہ بھی زیر اثر آئے گا اور ہمارے پاس چھوٹا میدان ہو گا؛ ہم سوکر کے کھمبوں کی جگہیں تبدیل کرنے کے امکانات پر بات چیت کر رہے ہیں
- آخری پر کم اہم نہیں - حفاظت - تمام بچے اپنی حفاظت کے لیے تعمیراتی حصے سے دور رہیں، براہ مہربانی اپنے بچوں کو یہ یاد دہانی کروائیں اور بروکلے ڈرائیو کے آس پاس چوکس بھی رہیں کیونکہ تعمیراتی ٹرک تعمیراتی جگہ تک پہنچنے کے لیے اسے بطور گزرگاہ استعمال کریں گے

تینوں سکول تعمیراتی دورانیہ میں قابل رسائی بیرونی جگہ کا مربوط استعمال کریں گے، جو کہ متوقع ہے کہ 2019 کے موسم گرما تک جاری رہے گا۔ ٹورانٹو سکول ڈسٹرکٹ بورڈ (TDSB) کا عملہ براہیکٹ کی پیش قدمیوں اور تمام وقت طلباء، عملے اور آنے والوں کے تحفظ کے جائزے کے لیے کانٹریکٹر ایور سٹرانگ کنسٹرکشن لمیٹڈ کے ساتھ مسلسل رابطہ میں رہے گا۔

تعمیر کے دوران آپ کے تحمل اور تعاون کی قدر افزائی کی جاتی ہے۔

مخلص،